

## 135898-مسجد کے ستونوں کے درمیان صفت بنانا جائز ہے؟

سوال

نماز بجماعت کی ایسی صفتیں جن کے درمیان میں مسجد کے ستون کے ستون آتے ہیں ان میں ستون کے بعد کیا میں اکیلا کھڑا ہو سکتا ہوں؟

پسندیدہ جواب

احادیث نبویہ میں مسجد کے ستونوں کے درمیان صفت بندی سے ممانعت موجود ہے: کیونکہ درمیان میں ستون آنے کی وجہ سے صفت میں انقطاع آ جاتا ہے۔

چنانچہ ابن ماجہ: (1002) میں معاویہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ: (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ستونوں کے درمیان صفت بندی کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا جاتا تھا) اس روایت کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔

اسی طرح سنن ترمذی: (229) میں عبد الحمید بن محمد کہتے ہیں کہ: ہم نے کسی گورنر کے پیچے نماز ادا کی اور لوگوں نے ہمیں دو ستونوں کے درمیان نماز ادا کرنے پر مجبور کر دیا، جس وقت ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں کہا: "ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بھگوں میں نماز ادا کرنے سے بچا کرتے تھے" اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔

ابن مفلح رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"مقدیری کیلئے ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ ہے، امام احمد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: اس طرح صفت میں انقطاع آ جاتا ہے" انتہی (الفروع) (2/39)

تاہم اگر ستونوں کے درمیان نماز ادا کرنے کی ضرورت محسوس ہو کہ نمازی بہت زیادہ ہو جائیں اور مسجد میں جگہ کی تیلگی کی شکایت ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

دائی فتویٰ لکھیٰ کے علمائے کرام کہتے ہیں:

"اگر ستونوں کی وجہ سے صفوں میں انقطاع واقع ہو تو ان کے درمیان میں صفت بنانا مکروہ ہے، البتہ مسجد کی تیلگی اور نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں استثناء ہے" انتہی (فتاویٰ الجبیۃ الدائمة) (5/295)

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اگر مسجد چھوٹی پڑ جائے تو ایسی صورت میں ستونوں کے درمیان صفت بندی کرنا جائز ہے، بعض علمائے کرام نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، البتہ اگر مسجد میں بھراش ہو تو پھر ستونوں کے درمیان صفت بندی کے متعلق اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ستونوں کے درمیان صفت بندی کرنا ممنوع ہے: کیونکہ اس سے صفت میں انقطاع آتا ہے، اور اگر ستون کی چوڑائی زیادہ ہو تو صفت میں زیادہ انقطاع پیدا ہو جاتا ہے" انتہی

چنانچہ اگر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی بنا پر مسجد تیلگی کی جگہ شکایت ہو تو ایسی صورت میں ستونوں کے درمیان صفت بندی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امدا: جب آپ مسجد آئیں اور لوگ صفوں میں کھڑے ہو چکے ہوں اور آپ کو ستون کے بعد ہی صفت میں کھڑے ہونے کی جگہ ملے تو ایسی صورت میں وہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز یہ صفت کے پیچے اکلیے نماز ادا کرنے کے زمرے میں بھی نہیں آئے گا؛ کیونکہ آپ صفت کے پیچے اکلیے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ آپ صفت میں ہی دیگر نمازوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس صفت میں ایک ستون کی وجہ سے انقطاع آگیا ہے، چنانچہ ضرورت کی بنا پر ستون کے بعد کھڑے ہونا جائز ہے۔

واللہ اعلم۔